

13 جون 2018

## برامپٹن کے اقتصادی مستقبل کے لیے ایک نیا روڈ میپ

برامپٹن، آن – برامپٹن سٹی کونسل نے ایک نئے اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان کی منظوری دے دی ہے، جو برامپٹن میں ملازمتوں اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ماحول پیدا کرنے کے لیے اہداف اور حکمت عملیاں واضح کرتا ہے۔

سٹی کا ہدف مخصوص حکمت عملیوں کے ذریعے برامپٹن کو جدت، ٹیلنٹ، نوکریوں اور سرمایہ کاری کے لیے عالمی رہنماء کے طور پر کھڑا کرنا ہے – بشمول اگلے 20 سالوں میں برامپٹن میں 140,000 نوکریوں کا اضافہ۔ اس سے جدت، ٹیلنٹ، مسابقت و سرمایہ کاری جیسے کلیدی شعبوں میں عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سفارش کردہ کچھ عملی اقدامات پہلے سے جاری ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری کی از سر نو تقسیم کی ضرورت ہے، جس پر بجٹ کے دوران غور کیا جائے گا۔ منصوبہ سٹی کی ریٹرنس یونیورسٹی اور شیرڈین کالج کے ساتھ شراکت داریوں اور ایک نئے ڈاؤن ٹاؤن کیمپس اور سنٹر فار انوویشن سے حاصل ہونے والے مواقع کو بھی استعمال میں لاتا ہے۔

اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان نجی اور سرکاری شعبوں کے ساتھ اشتراک اور شراکت داری کی ضرورت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، بشمول نوکریوں اور سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے گریٹر ٹورانٹو اینڈ ایئرپورٹ اتھارٹی کے ساتھ معاشی رابطے پیدا کرنے کے لیے سرگرمی۔

منصوبے کی منظوری کے ساتھ ہی، سٹی کونسل نے عملے کو ڈاؤن ٹاؤن میں دستیاب خالی جگہ کو کاروبار کے انکیوبیٹر اور مشترکہ کام کی جگہ میں تبدیل کرنے کی اجازت دے دی، جس میں ریٹرنس یونیورسٹی جدت اور انکیوبیشن کے حوالے سے اپنی یونیورسٹی کے وسیع تجربے سے سیکھے گئے بہترین عمل درآمد اور اسباق شریک کرے گی۔

برامپٹن کے اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر آفس نے تاریخی معاشی مظاہر کی نظر ثانی اور برامپٹن کی موجودہ معاشی صورتحال کے ایک تجزیے کے ساتھ 2017 میں اس منصوبے کی تیاری کا عمل شروع کیا۔ مشیر E&Y کی معاونت کے ساتھ، سٹی نے برامپٹن سے ملنے جلتے تجربات رکھنے والے شہروں کے سیکھے ہوئے سبق اور بہترین عمل درآمد کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے چھ تقابلی پیمائشوں کا بھی جائزہ لیا۔ برامپٹن کے کاروباری نمائندوں، NGOs، سٹی کونسلرز اور عملے پر مشتمل ایک اسٹیئرنگ کمیٹی نے کام کی رہنمائی کی اور حتمی منصوبے اور سفارشات میں معاونت فراہم کی۔

اگلے مرحلے کے طور پر، اکنامک ڈیولپمنٹ کا عملہ نوکریوں کی تخلیق، سرمایہ کاری، جدت اور انٹرپرائیوٹرشپ کے حوالے سے کارکردگی کے میٹرکس تیار کرے گا۔ کلیدی شراکت داروں اور گروپوں کے کرداروں کی شناخت کرنے کے لیے کام کیا جائے گا اور عملی منصوبے کے نفاذ کے ساتھ ساتھ نتائج کی پیمائش بھی کی جائے گی، عملہ کلیدی سامعین کے ساتھ موزوں رابطے کو یقینی بنائے گا۔

### اقتباسات

"برامپٹن دیگر کینیڈین اور عالمی شہروں کے لیے ایک بڑا اہم حریف بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ افق پر منڈلاتے ہوئے ایک بڑے معاشی طوفان کے حامل بادلوں کی بات کرتی ہے - اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے اپنی مسابقتی صلاحیت کو بڑھانے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے لیے پہلے سے ہی کچھ بے باک اقدامات کر لیے ہیں۔ بالآخر، یہ رپورٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہم سٹی آف برامپٹن میں جدت اور مسابقتی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے پیمائش کردہ خطرے کو قبول کریں، اپنی سرمایہ کاری کی سرگرمی کو بڑھائیں اور کاروباری کمیونٹی اور تعلیمی اداروں کے ساتھ اپنی شراکت داریوں کی قیادت کریں۔"

- برامپٹن میئر لنڈا جیفری

"جیسا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان کا عمل آگے بڑھ رہا تھا، ہم نے برامپٹن کے اندر اور باہر سے کئی فریقین کی ترجیحات اور خیالات کے بارے میں سنا۔ یہ منصوبہ بے باک ہے اور کامیابی کے لیے ہمیں مسلسل محنت اور شراکت داریاں درکار ہوں گی، جس میں سٹی کے اہداف کی واضح اور کثرت سے پیمائش ہو گی۔"

- کونسلر جیف بومین، اکنامک ڈیولپمنٹ چیئر

"اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے شراکت داریاں اور اشتراک، تاریخ میں کسی بھی وقت کی نسبت سے اب زیادہ اہم ہیں۔ یہ منصوبہ ہماری کاروباری کمیونٹی، ٹورانٹو گلوبل جیسی تنظیموں، ریٹرسن اور شیرپٹن جیسے تعلیمی شراکت داروں کے ساتھ کام کے مضبوط تعلقات پیدا کرنے اور GTAA کے ساتھ معاشی رابطے بنانے کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے۔"

- باب ڈارنگ، ڈائریکٹر، برامپٹن اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان کے حقائق:

- **چھ تقابل پیمانہ شہر:** سُرے، BC؛ آسٹن، ٹیکساس، سین جوز، کیلیفورنیا؛ چارلٹ، نارٹھ کیرویلینا؛ کولمبس، اوہائیو؛ اور اوسلو، ناروے
- **اسٹینڈنگ کمیٹی کے اراکین:** کلف بینسن، VSETA انجینئرنگ اینڈ برامپٹن ماسٹر مائنڈ؛ جو کرمپ، دی کرمپ گروپ، آئی این سی؛ نقالی فرینسس، مارکیٹنگ اسٹریٹیجسٹ؛ کنور دنجال، جسٹ انسٹرومنٹس آئی این سی؛ ایوان مور، پراؤز، ڈیش اینڈ کراؤچ، LLP؛ راڈ رائیس، رائیس ڈیولپمنٹ کارپ؛ ہیتھر سٹریٹی، ڈیلونٹ پرائیویٹ اور چیئر، برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ؛ شالینی ڈاکنہا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، پیل ہیٹن ورک فورس ڈیولپمنٹ گروپ؛ کونسلر جیف بومین؛ کونسلر ڈوگ ویلینز
- **توجہ کے کلیدی شعبے:** ٹیلنٹ اور افرادی قوت؛ سرمایہ کاری؛ جدت اور ٹیکنالوجی؛ نوکریوں کی جگہیں؛ اور مسابقتی صلاحیت
- ماسٹر پلان کا **برامپٹن کے 2040 ویژن** کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے اور ایسی سرگرمیوں کا نفاذ کر رہا ہے جو ویژن پر عمل درآمد کرتی ہیں اور جو برامپٹن کو ممتاز کرتی ہیں، جن میں جدت، ڈاؤن ٹاؤن کی ترقی، برامپلیہ کے حوالے سے نئی تجاویز اور ایک نئے "اپ ٹاؤن" پر زور دیا گیا ہے۔
- پہلے سے جاری عمل درآمد میں ریٹرسن کے ساتھ شراکت داری میں انکیوبیٹر/مشترکہ کام کی جگہ، سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرنے کے لیے حکمت عملی کی تیاری، ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سپر کلستر کے حوالے سے ٹیلنٹ اور گنجائش کی تیاری، برامپٹن کے کاروباری لوگوں اور انٹرپرائیوٹرز کے لیے ایک آن لائن نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم کا آغاز اور معاشی رابطے پیدا کرنے کے لیے GTAA سے بات چیت شامل ہے۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں **ٹونڈر** اور **فیس بک** پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔